

بروز سوموار مورخہ 07 نومبر 2016ء بوقت سہ پہر (3:00) بجے منعقد ہونے والے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے اجلاس کی ترتیب کارروائی۔

1- تلاوت قرآن پاک و ترجمہ

2- وقفہ سوالات۔

3- سرکاری کارروائی برائے قانون سازی
(علیحدہ فہرست میں مندرج سوالات دریافت اور ان کے جوابات دیئے جائیں گے)

قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کا ایوان میں پیش کیا جانا۔

I چیئر پرسن مجلس قائمہ بر محکمہ سماجی بہبود و ترقی نسوان، زکوٰۃ عشر حج و اوقاف، اقلیتی امور و امور نو جوانان، تحریک پیش کرینگی کہ بلوچستان بچوں کے تحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ 2015 (مسودہ قانون نمبر 10 مصدرہ 2015) کی بابت رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 07 نومبر 2016 تک توسیع کی منظوری دی جائے۔

II چیئر پرسن مجلس قائمہ بر محکمہ سماجی بہبود و ترقی نسوان، زکوٰۃ عشر حج و اوقاف، اقلیتی امور و امور نو جوانان بلوچستان بچوں کے تحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ 2015 (مسودہ قانون نمبر 10 مصدرہ 2015) کی بابت کمیٹی کی رپورٹ پیش کرینگی۔

III وزیر سماجی بہبود - تحریک پیش کریں گے کہ بلوچستان بچوں کے تحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ 2015

(مسودہ قانون نمبر 10 مصدرہ 2015) کو کمیٹی سفارشات کی بموجب فی الفور زیر غور لایا جائے۔
IV وزیر سماجی بہبود تحریک پیش کریں گے کہ بلوچستان بچوں کے تحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ 2015

(مسودہ قانون نمبر 10 مصدرہ 2015) کو کمیٹی سفارشات کی بموجب منظور کیا جائے۔

4- مجلس قائمہ بر محکمہ تعلیم، خواندگی و غیر رسمی تعلیم، اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن، صدارتی پروگرام (سی ڈی ڈبلیو اے)، سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کا رپورٹ ایوان میں پیش کیا جانا۔

(i) چیئر پرسن مجلس قائمہ بر محکمہ تعلیم، خواندگی و غیر رسمی تعلیم، اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن، صدارتی پروگرام (سی ڈی ڈبلیو اے)، سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی تحریک پیش کرینگی کہ محکمہ تعلیم کے این ٹی ایس ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں کی بابت رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 07 نومبر 2016 تک توسیع کی منظوری دی جائے۔

(ii) چیئر پرسن مجلس قائمہ بر محکمہ تعلیم، خواندگی و غیر رسمی تعلیم، اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن، صدارتی پروگرام (سی ڈی ڈبلیو اے)، سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمہ تعلیم کے این ٹی ایس ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں کی بابت رپورٹ پیش کریں گی

5- ایوان کی کارروائی۔

قواعد انضباط کار بلوچستان صوبائی اسمبلی 1974 کے باب دوازدہم کے بعد نیا باب دوازدہم (الف) کا اضافہ۔

(i) مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان برائے قانون و پارلیمانی امور قواعد و انضباط کار بلوچستان صوبائی اسمبلی 1974 کے قاعدہ 233 کے تحت باب دوازدهم کے بعد نیا باب دوازدهم (الف) (Hour Zero) میں اضافہ کی بابت ترمیمی مسودہ کی تحریک پیش کریں گے۔

6 - مورخہ 02 نومبر 2016 کی نشست میں باضابطہ شدہ تحریک التواء نمبر 1 پر عام بحث۔

کوئٹہ سیکرٹری،
مورخہ 07 نومبر 2016 بلوچستان صوبائی اسمبلی۔